



سوال

(231) مسجد کے ساتھ تکیہ کے لیے وقف زمین کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسجد کے ارد گرد دور دور تک سفید زمین پڑی ہے جو کہ تاحال مسجد مذکور کے استعمال میں نہیں آئی۔ معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ زمین تعمیر مسجد کے وقت تمام شرکاء نے برائے تعمیر تکیہ چھوڑی تھی۔ لہذا آج تک تکیہ تعمیر نہ ہوا۔ اب ایک شریک جو مسجد کی پشت پر آباد ہے وہ بوجہ قلت جگہ کے اس متروکہ زمین سے کچھ زمین لپٹنے حصے سے کم لپٹنے استعمال میں بصورت مکان لاسکتا ہے یا نہیں۔ اور لپٹنے فائدہ کے علاوہ یہ بھی منشا ہے کہ مستورات یہاں پر مسجد کے پہلو میں نماز تراویح و جمعہ وغیرہ پڑھ سکیں لیکن شرکاء میں سے دو آدمی کہتے ہیں کہ اس اراضی میں سے لپٹنے استعمال میں نہیں لاسکتے۔ کیونکہ یہ اراضی بغرض افادہ مسجد چھوڑی گئی ہے جو شخص منع کرتا ہے وہ اس کا مخالف ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو زمین تکیہ کے لیے وقف کی گئی ہے وہ وقف نہیں ہوئی کیونکہ تکیہ محض حقہ نوشی کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے جو شرعاً حرام ہے۔ عموماً اس علاقہ میں لوگوں کا یہی رواج ہے کہ مسجد کے ساتھ حقہ نوشی کے لیے تکیہ بناتے ہیں۔ جب زمین وقف نہ ہوئی تو اب اختیار ہے جس مطلب کے لیے استعمال کرنی ہو کر لیں خواہ لپٹنے استعمال میں لائیں یا مستورات کے لیے جگہ بنا دیں یا مسجد کے کسی دوسرے کام میں آجائے۔ ہاں اگر تکیہ سے مراد مسافر خانہ یا حجرہ ہو جہاں آنے لگے مسافر ٹھہریں۔ حقہ نوشی مقصود نہ ہو تو پھر یہ وقف صحیح ہے۔ اب یہ کسی کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ مستورات کے لیے جگہ بنا دی جائے یا مسافر خانہ یا مدرسہ تعمیر کر دیا جائے یا مسجد کے کسی کام میں استعمال کر لی جائے بہر صورت وقف کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ ذاتی طور پر اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اہلحدیث

مساجد کا بیان، ج 1 ص 324

محدث فتویٰ

